

کیا آپ کو معلوم ہے کہ نیویارک سٹی میں رہ رہے ایک نو عمر فرد کی حیثیت سے، آپ کو ActionNYC کے ذریعہ مفت، محفوظ امیگریشن سے متعلق مدد تک رسائی حاصل ہے؟

ActionNYC آپ کو پورے نیویارک شہر کی ایسی قابل اعتماد تنظیموں سے جوڑتی ہے جو مفت اور رازدارانہ اسکریننگز فراہم کر سکتی ہیں تاکہ آپ اپنی امیگریشن سے متعلق قانونی اختیارات کو جانیں اور قانونی مدد حاصل کر سکیں۔

اگر امیگریشن کے بارے میں آپ کے سوالات ہوں، ساتھ ہی اگر آپ درج ذیل کے شکار ہوئے/ہوئی ہیں، تو امیگریشن سے متعلق کون سی مدد دستیاب ہو سکتی ہے، اس کے لیے ActionNYC کو کال کریں:

- خانگی تشدد، ڈیٹنگ سے وابستہ تشدد، جنسی حملہ، یا تعاقب؛
- کسی شخص نے آپ کے نہ چاہنے کے باوجود آپ کو کام کرنے پر مجبور کیا ہو، کسی شخص نے ایسی چیزیں کرنے یا بعض متعلقہ جرائم کرنے پر مجبور کیا ہو جو آپ نہیں کرنا چاہتے تھے/چاہتی تھیں؛
- آپ کے آبائی ملک میں مخالف حالات، جیسے کہ جنگ، سیاسی بدامنی، یا قدرتی آفت؛
- آپ کے آبائی ملک میں کسی نے آپ کے ساتھ نسل، مذہب، قومیت، سیاسی رائے، یا کسی مخصوص سوشل گروپ کی رکنیت، بشمول، لیکن بلا تاحدید، جنسی رجحان، صنف، صنفی شناخت، یا جنس پر مبنی شناخت کی بنیاد پر آپ کو نقصان پہنچایا ہو یا آپ کو اس سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو؛
- ایسی صورتحال جس میں آپ کو والد یا والدہ یا دونوں ہی آپ کو مارتے پیٹتے ہوں، ایذا دیتے ہوں، آپ کی مناسب دیکھ بھال نہیں کرتے ہوں، یا کبھی آپ کی زندگی میں رہے ہی نہ ہوں؛ اور
- اسی طرح کے دیگر عوامل جو نیویارک سٹی میں رہ رہے نو عمر افراد کو امیگریشن سے متعلق راحت کی بنیاد فراہم کر سکتے ہوں

اپائنٹمنٹ کے لیے 1-800-354-0365 یا 311 پر کال کریں اور کہیں "ActionNYC"۔ آپ کا اپائنٹمنٹ آپ کی زبان میں اور آپ کی پسند کی جگہ پر ہوگا۔ سبھی پانچ بوروز میں ActionNYC کی سائٹیں ہیں۔ امیگریشن سے متعلق خدمت فراہم کرنے والے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں جو اپنے گاہکوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ صرف قابل اعتماد، لائسنس یافتہ اٹارنی یا منظور شدہ نمائندہ سے ہی مدد حاصل کریں۔